

کہ آپ کو قایونہ کر لیا جائے اور آپ ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں یا حملے سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جائے۔

کچھ مت کریں۔ اگر آپ پر چاقو (پھری) نکال لیا جائے یا کوئی اور ہتھیار نکال لیا جائے تو صورتحال کو مزید بگاڑنے کے لیے کچھ مت کریں۔

یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس قائم رکھیں، تعاون کریں، جو آپ کو کرنے کے لیے کہیں وہ کر دیں، غصے میں آئے ہوئے شخص پر اپنا غصہ ظاہر نہ کریں۔ غصے میں آیا ہوا شخص (جارحیت پسند) / ڈاکو ہو سکتا ہے مزید غصے میں آجائے اور آپ کی اچانک حرکت اسے مزید طیش دلا دے یا وہ آپ کی حرکت کا غلط مطلب سمجھ بیٹھے۔ کوئی ہتھیار چھیننے کی کوشش مت کریں۔ صرف الارم چالو کر دیں وہ بھی اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو (جب ڈاکو جا چکا ہو) یا اگر یہ خاموشی سے چالو ہونے والا الارم ہے اور اسے خاموشی سے چالو کیا جاسکتا ہے۔